

Q9. Translate the following passage into English.

اس کرہ ارض پر زندگی کو تباہی بربادی اور غیر فطری اور غیر طبعی موت سے بچانے کے لیے بقائے باہمی کے اصولوں کی پابندی ایسی ناگزیر ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی اس کا شعور رکھتے ہیں ہیں جنگلی حیات کا معمولی مشاہدہ کرنے والوں کو یہ بھی علم ہے کہ مختلف انواع کے جانور باہم مل کر رہتے ہیں۔ چارے پانی کی تلاش میں اجتماعی سفر کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے رہتے ہیں اپنی خوراک کے حصول کی جدوجہد میں ایک دوسرے کو فنا کر دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ درندے اگر چرندوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی تاہم ان کی چیڑ پھاڑ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ درندوں کے برعکس انسان ہیں کہ ان کی بھوک ان کی زندگی میں کبھی مٹی نظر نہیں آتی ان کا پیٹ جیتے جی ممکن حد تک سب ہڑپ کر لینے کے باوجود

نہیں بھرتا تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ تاہم تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دور ایسا نہیں رہا جو انسانوں میں باہمی محبت کے جوت جگانے والوں کی جدو جہد سے خالی رہا ہو۔

you have not translated half of the urdu sentences
translate word to word and resubmit you have changed the contextual
meaning entirely

Translation

It is very important to socialize
to prevent destruction of Earth. It
is noticed that animals also socialize.

Animals socialize to search food
and shelter, and they do not
harm each other. Although many
animals kill and eat other animals.
But they do not harm each other
after fulfilling the stomach. On
the other hand, human hunger
never ends. But it is evident
from history that Earth had
never emptied from kind-hearted
and lovely human beings.

